

والدین اور سرپرستوں کے لیے فیکٹ شیٹ

### پروگرام کے متعلق

#### لعاب کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟

لعاب کے نمونوں کے ذریعے آسان اور معمولی طریقے سے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے کہ کیا آپ کا بچہ COVID-19 کا شکار ہے۔ اس ٹیسٹ میں آپ کا بچہ ٹیوب میں تھوڑا سا لعاب ڈال کر اسے اسکول یا کالج لاتا ہے، جہاں اسے جمع کیا جاتا ہے اور اس کا لیب میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نتائج 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بذریعہ ٹیکسٹ اور ای میل میسیج بھیجے جاتے ہیں۔

#### آپ کے بچے کی شرکت ضروری کیوں ہے؟

یہ جاننا کہ کون COVID-19 کا شکار ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وسیع پیمانے پر ہفتہ وار ٹیسٹنگ کے ذریعے ان افراد کی نشاندہی ممکن ہے جو وائرس کا شکار ہیں لیکن جن میں علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔

#### لعاب کا ٹیسٹ مختلف کیوں ہے؟

لعاب کا ٹیسٹ آسان، قابل رسائی اور معمولی نوعیت کا ہے۔ شرکت کنندگان ایک صاف چائے کے چمچ میں تھوکنے کے بعد 2 ملی لیٹر لعاب ٹیسٹنگ کے لیے ایک ٹیوب میں ڈالتے ہیں۔ اس میں گلے یا ناک کو سواپ نہیں کیا جاتا۔ مطالعہ جات سے ثابت ہوا ہے کہ لعاب کے نمونے بہت درست ہیں اور ان سے معتبر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ جینومک سیکوئنسنگ کے لیے بروقت پہلا ٹیسٹ بھی پیش کرتے ہیں جو خدشات کو جنم دینے والی ابھرتی ہوئی اقسام میں اہم تحقیق کے لیے اہم ہے۔

#### یہ پروگرام کس طرح کام کرتا ہے؟

مندرجہ ذیل تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ پروگرام کس طرح کام کرتا ہے اور ہم آپ کو، آپ کے بچے، اور ان کے اسکول یا کالج کو کس طرح معاونت فراہم کر رہے ہیں۔

آپ کا اسکول یا کالج ٹیسٹنگ کے لیے سائن اپ کرتا ہے

سائن اپ کیجیے

طلباء کی ٹیسٹنگ کے متعلق سمجھ بوجھ میں اضافے کے لیے وقف اسباق بڑھائے جاتے ہیں

طلباء کو گھر پر لعاب کے نمونے کی فراہمی کے لیے جمع کاری کا کٹ دیا جاتا ہے



نمونے کو اسکول یا کالج لایا جائے گا اور جمع کرنے کے ڈبے میں ڈالا جائے گا

نمونے کو لیباریٹری لے جایا جائے گا اور نتائج 24-48 گھنٹوں کے اندر بذریعہ ٹیکسٹ پیغام ارسال کیے جائیں گے

مثبت نتیجے کی صورت میں آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر کال موصول ہوگی اور NHS ٹیسٹ اینڈ ٹریس کے ساتھ نتیجہ شیئر کیا جائے گا